

(v) Het up

(vii) It's about time

(iv) Tilt at windmills

(vi) The whole ball of wax

(viii) Punch-up

Q.7. Translate the following Urdu paragraph into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

لاہور شہر سیاست ہی نہیں ثقافت کا بھی قدیم مرکز ہے۔ مغلوں کی ثقافت نے عروج کا زمانہ اس شہر میں دیکھا۔ سکھ ثقافت کا بھی یہی مرکز تھا۔ علم و ادب کی ثقافت بھی اسی شہر کے حصہ میں آئی۔ اہل تصوف کا بھی یہی مرکز تھا۔ تصوف کی مشہور کتاب کشف المحجوب کے مصنف حضرت علی ہجویری المشہور حضرت داتا گنج بخش بھی اسی شہر میں مدفون ہیں۔ انگریزوں کے دور میں بھی لاہور کا فیشن پورے ہندوستان میں رائج ہوتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اس شہر کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔

Lahore is not only the center of politics, but also an ancient center of culture. The Mughal Empire culture saw the age of Golden Age. It was also the center of Sikh culture. The culture of literature also became a part of this city. It was also the center of Sufism. The <sup>most famous</sup> ~~most famous~~ book of Sufism "Kashf-ul-Mehjoob" (Heart) Ali Hajveri - Mathkhor Hazrat Dada Ganiy Becks is also buried in this city. In the British rule, fashion of Lahore was in the sub-continent. The importance of this city did not get down even after the inception of Pakistan.